

تمام نوجوان رہنماؤں، سرگرم عمل اور صاحب کشف افراد کو دعوت دی جا رہی ہے سٹی اپنا پہلا برامپٹن 2040 ویژن بوتھ سمپوزیم منعقد کر رہا ہے

برامپٹن، آن - برامپٹن 2040 ویژن کے بارے میں جاری بحث کے حصے کے طور پر، سٹی آف برامپٹن اپنے پہلے ویژن بوتھ سمپوزیم کا حصہ بننے کے لیے برامپٹن ہائی اسکول کے طلباء کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ تقریب بروز ہفتہ، 1 دسمبر کو صبح 10 تا شام 5 بجے تک برامپٹن سٹی ہال میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کے بعد شام 5 سے رات 8 تک ایک سماجی تقریب منعقد کی جائے گی۔

یہ تقریب برامپٹن کے نوجوانوں کو اس بارے میں اپنے خیالات شریک کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گی، کہ اس ویژن کی حقیقت میں تعبیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ شرکاء دلچسپی کے ایک شعبے کا انتخاب کریں گے - ماحول، ذرائع آمد و رفت، ملازمتیں، تفریح، صحت، سماجی مسائل یا فنون و ثقافت - اور مستقبل کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔

اس موقع پر مفت ناشتہ اور دن کا کھانا، ورکشاپ کی نشستیں، فنون کے مظاہرے، پریزینٹیشنز اور کچھ مزید دلچسپ چیزیں شامل ہوں گی۔ رجسٹر کرنے کے لیے، برائے مہربانی bramptonyouthsymposium.eventbrite.com ملاحظہ فرمائیں۔ اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ شرکاء اپنا لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لائیں، تاہم زیادہ سے زیادہ شرکت کو ممکن بنانے کے لیے سٹی اس روز کے لیے لیپ ٹاپ ادھار بھی دے گا۔

برامپٹن 2040 ویژن، جس کی سٹی کونسل کی جانب سے مئی 2018 میں توثیق کی گئی تھی، اس صدی کے اگلے چوتھائی حصے میں برامپٹن کے مستقبل پر ایک پر امید نظر ہے۔ یہ ویژن کے سات کلیدی خیالات اور انہیں ممکن بنانے کے لیے 28 مخصوص اقدامات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ 2040 ویژن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے brampton.ca ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"ہے شک وہ معاشرے میں سرگرم افراد ہوں، فنکار ہوں، اٹھلیٹ یا انٹرپرائیوز ہوں، ہمارے نوجوانوں کے پاس بہترین تصورات موجود ہوتے اور ان کی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ بحث کرنے، غور و فکر کرنے اور یہ کہ وہ اپنے شہر کو 2040 تک کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کا تعین کرنے میں مدد کرنے کے لیے، ان کے پاس یہ سمپوزیم ایک بہترین موقع ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

"برامپٹن 2040 ویژن سٹی اور کمیونٹی کو نئے خیالات کے بارے میں بات چیت کرنے، انہیں آزمانے اور اپنا بنانے کے لیے للکارتا ہے۔ کینیڈا کے نوجوان ترین شہروں کے طور پر، ہمارے نوجوان ان مباحثوں کا اہم حصہ ہیں۔"

- اینٹونیٹی منیجول، منیجر، کمیونٹی انوویشن اینڈ ریزیلینسی

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرٹن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

کرسٹین شرما

میڈیا ریلیشنز، سٹی آف برامپٹن

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca

